

سٹی آف برامپٹن، آگ سے بچاؤ کے ہفتہ کی 100 ویں سالگرہ منا رہا ہے۔

برامپٹن، آن (6 اکتوبر 2022) – سٹی آف برامپٹن، بشمول برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور اس موقع کے اسپانسرز این برج گیس اور ڈومینوز، 9 تا 15 اکتوبر تک آگ سے بچاؤ کے ہفتہ کی 100 ویں سالگرہ کا انعقاد کر رہے ہیں تاکہ آگ سے بچاؤ کے ہفتے کے دوران کمیونٹی میں آگ سے بچاؤ اور تیاری رکھنے کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے۔

نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن (NFPA) کے مطابق اس سال کا مرکزی خیال ہے "آگ انتظار نہیں کرے گی۔ باہر بھاگنے کی منصوبہ بندی کریں!" اس مرکزی خیال کا مقصد ہر ایک شخص کو ایسے سادہ مگر اہم اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، جن سے وہ خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو گھر کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔

گھر سے باہر بھاگنے کی منصوبہ بندی

- رہائشیوں کے پاس ایک ہوم فائر اسکوپ پلان موجود ہونا چاہیے اور انہیں سال میں دو بار اس کی مشق کرنی چاہیے۔
- گھر سے باہر کسی محفوظ مقام کو اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر متعین کریں
- ہر کمرے سے بھاگنے کے دو راستوں کی منصوبہ بندی کریں
- پالتو جانوروں سمیت کسی بھی چیز کے لیے اندر واپس نہ جائیں
- باہر نکل جائیں اور باہر ہی رہیں! آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر 1-1-9 پر کال کریں!

آگ سے بچاؤ کے ہفتہ کی 100 ویں سالگرہ منانے کے لیے، سٹی آف برامپٹن شہر بھر کے فائر اسٹیشنوں پر خیر مقدمی مقامات کا انعقاد کرے گا۔ ان پہلے 50 خاندانوں میں سے ایک بنیں جو 10 سال تک بغیر پریشانی سے چلنے والے سموک اور کاربن مونو آکسائیڈ کے الارم وصول کریں گے۔ فائر ٹرکوں اور اسٹیشنوں کے دورے بھی کرائے جائیں گے۔

خیر مقدمی مقامات

- بروز منگل، 11 اکتوبر 2022، دن 3:30 تا شام 7 بجے تک اسٹیشن کا مقام 210، 10530 کریڈٹ ویو روڈ
- بروز بدھ، 12 اکتوبر 2022، دن 3:30 تا شام 7 بجے تک اسٹیشن کا مقام 206، 7880 ہورونٹیئریو سٹریٹ
- بروز بدھ، 12 اکتوبر 2022، دن 3:30 تا شام 7 بجے تک اسٹیشن کا مقام 207، 75 ووڈن سٹریٹ ایسٹ
- بروز جمعرات، 13 اکتوبر 2022، دن 3:30 تا شام 7 بجے تک اسٹیشن کا مقام 209، 2691 سینڈل ووڈ پارک وے ایسٹ
- بروز جمعہ، 14 اکتوبر 2022، دن 3:30 تا شام 7 بجے تک اسٹیشن کا مقام 202، 280 برامیلیا روڈ

لنکس

- [گھر سے باہر بھاگنے کا منصوبہ](#)
- [گھر سے باہر بھاگنے کا منصوبہ \(کئی زبانوں میں\)](#)

اقتباسات

"جیسا کہ ہم آگ سے بچاؤ کے ہفتہ کی 100 ویں سالگرہ کا انعقاد کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آگ سے حفاظت اور آگاہیبرامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں اپنے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ آگ سے بچاؤ کے ہفتہ کے دوران خیر مقدمی مقامات کا وزٹ کریں اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر کے لیے آگ سے بچنے کا ایک منصوبہ ضرور بنائیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سیفٹی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اپنی حفاظت میں سرگرم رہیں اور گھر میں آگ سے بچنے کا ایک منصوبہ بنا کر رکھیں، کیونکہ اس سے قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں۔ مزید جاننے کے لیے آگ سے بچاؤ کے ہفتے کے دوران اپنے مقامی فائر اسٹیشن پر موجود ہمارے خیر مقدمی مقامات پر جائیں!"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"گھر میں آگ سے بچنے کا منصوبہ آگ سے واقع ہونے والی اموات اور زخمیوں کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک منصوبہ بنانے کے لیے ضرور وقت نکالیں اور اپنے خاندان کے ساتھ اس کا جائزہ لیں تاکہ ہر شخص اس بات سے آگاہ ہو کہ گھر میں آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ آگ سے بچاؤ کے ہفتے کے 100 سال منانے کے لیے، ہم رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ خیر مقدمی مقامات میں ضرور جائیں، سیر کریں اور آگ سے بچاؤ کے بارے میں جانیں۔"

- بل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca